

# WIDA Alternate ACCESS

## اپنے بچے کے اسکورز کو سمجھنا

Alternate ACCESS ایک انگریزی زبان کی مہارت کا ٹیسٹ ہے جو طالب علموں کی انگریزی زبان کی مہارت کا اندازہ لگاتا ہے جو کہ نمایاں طور پر علمی معذوری کا شکار ہیں۔

انفرادی طالب علم کی رپورٹ آپ کے بچے کے Alternate ACCESS انفرادی ڈومین اسکورز کو زبانوں کے ان چار ڈومینز میں دکھاتی ہے

- سننا
- بولنا
- پڑھنا
- لکھنا

**مجموعی طور پر مہارت کی سطح** چاروں زبانوں کے ڈومین اسکورز پر مبنی ایک حساب ہے۔ مجموعی طور پر مہارت کی سطح کا اسکور بنیادی طور پر پڑھنے اور لکھنے کے اسکور کے ذریعے طے کیا جاتا ہے اور اسکول کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا آپ کے بچے کو مسلسل انگریزی سیکھنے والی خدمات کی ضرورت ہے۔

طالب علم کا انفرادی ڈومین اسکور	
3	سننا
4	بولنا
3	پڑھنا
4	لکھنا
4	طالب علم کی مجموعی مہارت کا لیول

ایک طالب علم کے اسکور کی انفرادی طالب علم کی رپورٹ سے مثال۔

متبادل انگریزی زبان کی مہارت کے لیولز (PL)				
5 ملتا ہوا	4 بڑھتا ہوا	3 ترقی کرتا ہوا	2 اُبھرتا ہوا	1 آغاز کرتا ہوا

چار زبانوں کے ڈومینز میں ایک طالب علم کی متبادل انگریزی زبان کی مہارت کی سطح کی انفرادی طالب علم کی رپورٹ سے مثال۔

مہارت کی سطح کے اسکورز آپ کے بچے کی موجودہ مہارتوں کو پانچ متبادل انگریزی زبان کی مہارت کی سطحوں کے اندر رکھتے ہیں۔ (مہارت کی سطح آپ کے بچے کے گریڈ کی سطح سے متعلق نہیں ہے۔)

آپ کے بچے کے اسکورز کے نیچے، WIDA نے چند سرگرمیاں شامل کی ہیں جو کہ ایک عام طالب علم آپ کے بچے کی مہارت کے لیول پر کرسکتا ہے۔

### مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟

- آپ کے بچے کی انفرادی طالب علم کی رپورٹ پر ایک سیکشن ہے تجاویز کے ساتھ کہ آپ کیسے ان معلومات کو اپنے بچے کی مدد کرنے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔
- اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اپنے بچے کے ٹیچر سے رابطہ کریں۔